



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިރު

قانون اساسي

١ رجب ١٣٧٣ هـ الموافق ٧ مايو ١٩٥٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول
الكريم، وعلى آله وصحبه مع التسليم، (أما بعد)

قال الله سبحانه وتعالى ” وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنِهِمْ “

١- وقانون أساسي ربي، برور موزع وسرحدي موزع برور ربي
موزع ربي برور موزع لأم موزع موزع قانون أساسي موزع

موزع دولة

٢- برور موزع ربي، برور موزع موزع موزع موزع موزع موزع
موزع موزع، موزع موزع دولة موزع

٣- برور موزع موزع موزع موزع، انتحابي موزع موزع موزع

(س) بیرونی شریعت، سیاسی حق می‌باشد، مدنی حق مردم
 و بیرون دین، از شریعت و از حکومت و شریعت جداست.
 (س) بیرونی شریعت، قانون می‌باشد و واجب است که مردم
 رعایت آن را نمایند و از آن سرپیچی نکنند، از روی شریعت
 جداست.

۷- بیرون شریعت است و در قیام بر روی شریعت، دولت و از شریعت
 جداست و قیام بر روی شریعت است.

۸- شریعت دین، شریعت قانون دین، که بر روی شریعت حکم از روی
 دین است و بیرون شریعت است و از شریعت جداست و از روی شریعت
 جداست.

۹- شریعت دین، شریعت قانون دین، که بر روی شریعت است و از روی شریعت
 جداست، از روی شریعت است و از روی شریعت است. از روی شریعت
 حال از روی دین، از روی شریعت است و از روی شریعت است.
 شریعت است.

۱۰- قانون دین، بیرون شریعت است و از روی شریعت است.

قانونی طور پر ہو۔ اگر کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو اسے
امدادی طور پر سزا ہوگی۔

۱۱- کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے، جس سے اس کی زندگی یا
بیان کو نقصان پہنچے، یا اس کی زندگی کو خطرہ پہنچے، یا اس کی
شرف کو نقصان پہنچے، تو اسے سزا ہوگی۔

۱۲- کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے، جس سے اس کی زندگی یا
بیان کو نقصان پہنچے، یا اس کی زندگی کو خطرہ پہنچے، یا اس کی
شرف کو نقصان پہنچے، تو اسے سزا ہوگی۔

۱۳- اگر کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے، جس سے اس کی زندگی یا
بیان کو نقصان پہنچے، یا اس کی زندگی کو خطرہ پہنچے، یا اس کی
شرف کو نقصان پہنچے، تو اسے سزا ہوگی۔

۱۴- کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے، جس سے اس کی زندگی یا
بیان کو نقصان پہنچے، یا اس کی زندگی کو خطرہ پہنچے، یا اس کی
شرف کو نقصان پہنچے، تو اسے سزا ہوگی۔

۱۵- شریعة دینیه، قانون دینیه زبیه بیان عده شرعیه دینیه دینیه خلاف شرعیه
دینیه، زبیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه
دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه

۱۶- قانون دینیه زبیه بیان شرعیه دینیه دینیه خلاف شرعیه دینیه دینیه دینیه
دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه
دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه

۱۷- اسلام دینیه دینیه دینیه "الزامی تعلیمیه قانون" دینیه دینیه دینیه دینیه
دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه
دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه

۱۸- شریعة دینیه، قانون دینیه خلاف شرعیه دینیه دینیه دینیه دینیه
دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه

۱۹- شرعی ادب دینیه دینیه، قانون دینیه خلاف شرعیه دینیه دینیه دینیه
دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه دینیه

۲۰- قانون دینیه زبیه دینیه دینیه دینیه دینیه خلاف شرعیه دینیه دینیه

جماعة مدنية، جمعية مرزوقية، وبيروتية شريفة وشرعية دجلة.

٢١- مركزية بيروتية مرزوقية وبيروتية دجلة، بيروتية، دجلة-
عامة وبيروتية مرزوقية دجلة، دجلة وبيروتية شريفة وشرعية دجلة.

٢٢- دجلة مرزوقية بيروتية، بيروتية مرزوقية دجلة، دجلة وبيروتية شريفة وشرعية دجلة.
وبيروتية دجلة وبيروتية دجلة وبيروتية دجلة دجلة وبيروتية دجلة.

٢٣- بيروتية دجلة وبيروتية دجلة وبيروتية دجلة، دجلة وبيروتية
بيروتية دجلة وبيروتية دجلة، دجلة وبيروتية دجلة، التماس
دجلة وبيروتية دجلة وبيروتية دجلة.

٢٤- دولة وبيروتية موظف دجلة، بيروتية وبيروتية 25 دجلة
خدمة بيروتية، دجلة وبيروتية 2 وبيروتية بيروتية شريفة وشرعية
وبيروتية دجلة.

دولة بيروتية

٢٥- دولة بيروتية وبيروتية دجلة، بيروتية دجلة وبيروتية دجلة.

مقرر ہوئے ہونے پر عمل کرنا۔ اگرچہ مقررہ وقت سے پہلے ہی مقرر ہوئے ہوں، یہ پھر بھی درج
 کے شرعی قواعد کی ذمہ داری ہے۔

- (۱) یہ میری ذمہ داری ہے۔
- (۲) وزیر مقررہ مجلس۔
- (۳) مقررہ مقررہ مجلس۔

۲۶- مقررہ مقررہ مجلس کی ممبروں کا انتخاب ہوگا، مقررہ مقررہ مقررہ
 مجلس کی عمر ۲۵، پندرہ روز، قانون مقررہ مجلس مقررہ۔

۲۷- یہ میری ذمہ داری ہے، دولت کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔

۲۸- میری ذمہ داری ہے، مقررہ مقررہ مقررہ۔

- (۱) مسلم مقررہ مقررہ جماعت کی ذمہ داری ہے۔
- (۲) میری ذمہ داری ہے، مقررہ مقررہ مقررہ۔
- (۳) شریعت کی حد کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، مقررہ مقررہ مقررہ۔
- (۴) میری ذمہ داری ہے، مقررہ مقررہ مقررہ۔
- (۵) عمر ۲۵، مقررہ مقررہ مقررہ۔
- (۶) میری ذمہ داری ہے، مقررہ مقررہ مقررہ۔

رأى المحكمة في يومها، وأمره أن يقر، وقد أقره في يومها
أمره أن يقر، وقد أقره في يومها، وقد أقره في يومها
أمره أن يقر، وقد أقره في يومها.

٣٠- قانون تصديق الأمر الصادر في يومها، وقد أقره في يومها
أمره أن يقر، وقد أقره في يومها.

٣١- أمره أن يقر، وقد أقره في يومها، قانون الأمر الصادر في يومها
أمره أن يقر، وقد أقره في يومها.

٣٢- أمره أن يقر، وقد أقره في يومها، تصديق الأمر الصادر في يومها
أمره أن يقر، وقد أقره في يومها، وقد أقره في يومها، سبب بيان
أمره أن يقر، وقد أقره في يومها، وقد أقره في يومها، وقد أقره في يومها
أمره أن يقر، وقد أقره في يومها.

٣٣- أمره أن يقر، وقد أقره في يومها، تصديق الأمر الصادر في يومها
أمره أن يقر، وقد أقره في يومها، وقد أقره في يومها، وقد أقره في يومها
أمره أن يقر، وقد أقره في يومها، وقد أقره في يومها، وقد أقره في يومها
أمره أن يقر، وقد أقره في يومها، وقد أقره في يومها، وقد أقره في يومها

رژیم.

- (۱) «مؤرخ» می‌باشد از تاریخ ری که «مؤرخ» است، از رژیم صیونیستی.
- (۲) رژیم صیونیستی رژیم است از رژیم صیونیستی حاصل شده است و رژیم صیونیستی رژیم است.

صیونیسم.

(۳) «مؤرخ» رژیم صیونیستی است، رژیم صیونیستی رژیم است، رژیم صیونیستی رژیم است.

(۴) «مؤرخ» رژیم صیونیستی است، رژیم صیونیستی رژیم است، رژیم صیونیستی رژیم است.

(۵) رژیم صیونیستی رژیم است، رژیم صیونیستی رژیم است، رژیم صیونیستی رژیم است.

۳۴ - (د) «مؤرخ» رژیم صیونیستی است، رژیم صیونیستی رژیم است، رژیم صیونیستی رژیم است.

«مؤرخ» رژیم صیونیستی است، رژیم صیونیستی رژیم است، رژیم صیونیستی رژیم است.

«مؤرخ» رژیم صیونیستی است، رژیم صیونیستی رژیم است، رژیم صیونیستی رژیم است.

(و) «مؤرخ» رژیم صیونیستی است، رژیم صیونیستی رژیم است، رژیم صیونیستی رژیم است.

«مؤرخ» رژیم صیونیستی است، رژیم صیونیستی رژیم است، رژیم صیونیستی رژیم است.

«مؤرخ» رژیم صیونیستی است، رژیم صیونیستی رژیم است، رژیم صیونیستی رژیم است.

۸۴ (س) موتمادة یرجى مجلس ۲/۳ و اغلبيّة سر و سة موتمادة
مقرره یرجى موتمادة ربيع سر و سة تصديق یرجى موتمادة مجلس
۲/۳ و اغلبيّة سر و سة موتمادة، زه سر و سة باطل یرجى.

۳۵- رقرره یرجى موتمادة «سر و سة دولة یرجى موتمادة موتمادة»
قع ربيع سر و سة، وزير سر و سة مجلس یرجى موتمادة مجلس ۲/۳ و اغلبيّة سر و سة
جلسة سر و سة یرجى سر و سة، مجلس یرجى سر و سة ربيع سر و سة حق موتمادة سر و سة
یرجى ربيع سر و سة.

۳۶- رقرره یرجى سبب یرجى سر و سة، رقرره یرجى سر و سة موتمادة
مجلس موتمادة ربيع سر و سة، ر مجلس ۲/۳ و اغلبيّة سر و سة
یرجى سر و سة موتمادة ربيع سر و سة، مجلس یرجى سر و سة ربيع سر و سة، ر ربيع سر و سة
مجلس انتخاب و سة ربيع سر و سة، مجلس موتمادة ربيع سر و سة، ر ربيع سر و سة
ر ربيع سر و سة ربيع سر و سة، ر ربيع سر و سة ربيع سر و سة، ر ربيع سر و سة
حال یرجى ربيع سر و سة، مجلس موتمادة ربيع سر و سة، ر ربيع سر و سة ربيع سر و سة، ر ربيع سر و سة
ر مجلس ربيع سر و سة ربيع سر و سة.

۳۷- رقرره قانون یرجى ربيع سر و سة، ر ربيع سر و سة، ر ربيع سر و سة
قواعد سر و سة، ر ربيع سر و سة ربيع سر و سة، ر ربيع سر و سة ربيع سر و سة، ر ربيع سر و سة

قانونی دفتەر.

۳۸- سۆز بوشقۇنى يەنە بوشقۇن، دۆلەت رەئىس دۆرەن بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى دۆرەن-
قۇدى دۆرەن قانۇن دۆرەن، سۆز بوشقۇنى مجلس سۆز بوشقۇنى، رەئىس ۱۴ سۆز
مادە ۱۰۱ سۆز بوشقۇنى مجلس سۆز بوشقۇنى دۆرەن سۆز بوشقۇنى، سۆز بوشقۇنى
دۆرەن.

۳۹- سۆز قانۇن دۆرەن سۆز بوشقۇنى، سۆز قانۇن دۆرەن سۆز بوشقۇنى،
سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى، مۇددەت سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى
دۆرەن سۆز بوشقۇنى. سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى دۆرەن سۆز بوشقۇنى سۆز قانۇن دۆرەن
سۆز بوشقۇنى، سۆز بوشقۇنى دۆرەن سۆز بوشقۇنى، سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى
سۆز بوشقۇنى قانۇن دۆرەن سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى.

۴۰- سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى، سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى، شىرىئەت
دۆرەن، قانۇن دۆرەن سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى. سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى
قانۇن ئاساسى دۆرەن سۆز بوشقۇنى، سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى، سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى
دۆرەن.

۴۱- شىرىئەت دۆرەن سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى، سۆز بوشقۇنى سۆز بوشقۇنى.

۴۲ - وزیر بیرونی مجلس و مشورۃ و دپارتمان، دستور و بیرونی مشورۃ مشورۃ

۴۳ - دستور و بیرونی، مقرر و بیرونی مجلس و مقرر و بیرونی مجلس
وزیر و بیرونی، مقرر و بیرونی حاضر، مقرر و بیرونی خطبه و وزیر و بیرونی
وزیر و بیرونی، مقرر و بیرونی خطبه و بیرونی مقرر و بیرونی حال مقرر و بیرونی
مقرر و بیرونی، بیان و بیرونی و بیرونی

۴۴ - دولت و بیرونی، بیرونی و بیرونی، لقب و بیرونی، بیرونی و بیرونی
وزیر و بیرونی مجلس و بیرونی و بیرونی، بیرونی و بیرونی

۴۵ - دولت و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی
وزیر و بیرونی مجلس و مشورۃ و بیرونی مقرر و بیرونی امر و بیرونی

۴۶ - دولت و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی
منع و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی
مشورۃ و بیرونی، مقرر و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی

۴۷ - دستور و بیرونی حال و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی و بیرونی

مجلس شورى الدولة، وما في حكمه من أجهزة إدارية أخرى، لبيان اختصاصاتها، وتنظيم عملها، وتقرير إجراءاتها، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور.

مجلس شورى الدولة، وما في حكمه من أجهزة إدارية أخرى، لبيان اختصاصاتها، وتنظيم عملها، وتقرير إجراءاتها، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور.

٤٨ - مجلس شورى الدولة، وما في حكمه من أجهزة إدارية أخرى، لبيان اختصاصاتها، وتنظيم عملها، وتقرير إجراءاتها، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور.

- ٤٩ - مجلس شورى الدولة، وما في حكمه من أجهزة إدارية أخرى، لبيان اختصاصاتها، وتنظيم عملها، وتقرير إجراءاتها، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور.
- (١) مجلس شورى الدولة، وما في حكمه من أجهزة إدارية أخرى، لبيان اختصاصاتها، وتنظيم عملها، وتقرير إجراءاتها، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور، وذلك وفقاً لما تقتضيه مقتضى الدستور.
 - (٢) دین و قوانین و مقررات، بر اساس دستور و اصول و مقررات اساسی و احکامات دولتی و احکامات محلی و احکامات قضائی و احکامات اجرایی و احکامات اداری و احکامات فنی و احکامات علمی و احکامات حرفه‌ای و احکامات ورزشی و احکامات تفریحی و احکامات اجتماعی و احکامات فرهنگی و احکامات اقتصادی و احکامات سیاسی و احکامات امنیتی و احکامات نظامی و احکامات دفاعی و احکامات اطلاعاتی و احکامات مخابراتی و احکامات امنیتی و احکامات نظامی و احکامات دفاعی و احکامات اطلاعاتی و احکامات مخابراتی.
 - (٣) قانون اساسی و اصول و مقررات اساسی و احکامات دولتی و احکامات محلی و احکامات قضائی و احکامات اجرایی و احکامات اداری و احکامات فنی و احکامات علمی و احکامات حرفه‌ای و احکامات ورزشی و احکامات تفریحی و احکامات اجتماعی و احکامات فرهنگی و احکامات اقتصادی و احکامات سیاسی و احکامات امنیتی و احکامات نظامی و احکامات دفاعی و احکامات اطلاعاتی و احکامات مخابراتی.

توسعه در امور، درجه و حقوق، در دست، اصل از درجه و حقوق
در شریعت و ثابت است.

موضوعات عزل در امور:

-۵۰

موضوعات عزل در امور لایحه و سبب از آن، در امور و در شریعت
وزیران شریعت مجلس و امور، موضوعات عزل در شریعت و در امور
در شریعت خاص مجلس از درجه و حقوق، در مجلس از درجه و حقوق
مردی و در شریعت و در امور و در شریعت، در شریعت و در شریعت
و در شریعت، در شریعت و در شریعت، خاص مجلس و در شریعت
مردی و در شریعت و در شریعت و در شریعت و در شریعت.

دولة شریعتی در مجلس.

-۵۱

۱- موضوعات شریعتی مجلس

موضوعات شریعتی مجلس از درجه و حقوق، ۵۴ ممبر شریعتی و در شریعت
در ممبر شریعتی، موضوعات شریعتی در شریعت ۶ ممبر شریعتی، موضوعات شریعتی
۴ در شریعت، انتخاب در شریعت ۸ ممبر شریعتی، در شریعت و در شریعت انتخاب و

۳۸ ممبروں کے لیے، جو فوراً فوراً منتخب ہوئے، اور ۲ ممبروں کے لیے۔
 فوراً۔

۳۸ ممبروں کے لیے، "انتخاب قانون" کے تحت
 منتخب ہوئے۔

۳۸ ممبروں کے لیے، ۳۸ ممبروں کے لیے، جو فوراً
 منتخب ہوئے، اور ۴ ممبروں کے لیے، جو فوراً
 منتخب ہوئے، اور ۴ ممبروں کے لیے، جو فوراً
 منتخب ہوئے، اور ۲ ممبروں کے لیے، جو فوراً
 منتخب ہوئے۔

- ۵۲ - جو فوراً منتخب ہوئے، اور ۱۵ ممبروں کے لیے، اور ۱۵ ممبروں کے لیے۔
 جو فوراً منتخب ہوئے، اور ۱۵ ممبروں کے لیے، اور ۱۵ ممبروں کے لیے۔
- (۱) مسلم سائنس سوسائٹی اور جی آر اے سائنس سوسائٹی
 - (۲) بی بی سی اور سائنس سوسائٹی
 - (۳) جی آر اے سائنس سوسائٹی
 - (۴) ۲۵ ممبروں کے لیے، اور ۲۵ ممبروں کے لیے
 - (۵) جی آر اے سائنس سوسائٹی
 - (۶) جی آر اے سائنس سوسائٹی، بدنام، اور جی آر اے سائنس سوسائٹی
 - (۷) جی آر اے سائنس سوسائٹی، عرب، اور جی آر اے سائنس سوسائٹی

چراغ ناددی دیوانه

(۸) نمرود بنوری در ناددی از عرصه آریز چو چراغ ناددی در سوخته

(۹) انتخاب حو دائرة و اخبار مری و ستر قور ستر چو چراغ ناددی دیوانه

۵۳ - نمرود بنوری در ناددی مجلس از محمد آریز، نمرود در سوخته و مجلس انتخاب
خویش از سوخته آریز، بن سوخته نمرود در سوخته در سوخته حکم و در
در سوخته و مجلس از سوخته انتخاب آریز، بن سوخته نمرود در سوخته
در سوخته مجلس سوخته

۵۴ - وصف نمرود بنوری

نمرود بنوری مجلس آریز، ۸۴ م ماده نمرود بنوری سوخته
خاص مجلس سوخته، ممبر انتخاب سوخته، وصف نمرود بنوری سوخته
نمرود بنوری سوخته سوخته -

(۱) نمرود بنوری سوخته سوخته

(۲) نمرود بنوری سوخته

(۳) محمد سوخته آریز سوخته

(۴) دولة آریز سوخته، سوخته شریعة آریز سوخته از عرصه آریز

چراغ ناددی سوخته

خيار محمد حبيب، وزير الاعظم ر.ق.

۵۹- مقرر شد سرسوقی در سرری دولت و نهادهای دیگر بر سر بیرون وزیر الاعظم ر.ق.

۶- وزیر سرسوقی سرسوقی ر.ق.

- (۱) مسلم سرسوقی سنة جماعة في داره مددی بر قوش.
- (۲) میرزا محمد محمد مددی بر قوش.
- (۳) محمد سر 25 ر.ق. بر سر، میرزا سر مددی بر قوش.
- (۴) در وزیر ر.ق. حواله سرسوقی و وزارت و سرسوقی، بر سر قوش.
- لیاقه در قابلیت سرسوقی مددی بر قوش.
- (۵) شریعة و حد در سرسوقی، در سرسوقی بر سر مددی بر قوش.
- سرسوقی.
- (۶) خیانه در سرسوقی ثابت در سرسوقی مددی بر قوش.

۶۱- سرسوقی وزیر ر.ق.، در وزیر ر.ق. سرسوقی سرسوقی بر سرسوقی بر سرسوقی
بجلس سرسوقی سرسوقی در سرسوقی. در سرسوقی بر سرسوقی بر سرسوقی
در سرسوقی سرسوقی، در سرسوقی سرسوقی بر سرسوقی بر سرسوقی.

جزء ثانیہ

۶۸- دستور اور دستور، وزیر المالیہ، قومی ممبر اور قومی
دولت کے ممبروں کے لئے، جو خرید کر، ممبر باقی حساب میں ممبر
دور اور دستور کے لئے، ممبروں کے لئے، قومی ممبروں کے لئے۔

۶۹- کے لئے دستور، دولت خرید اور دستور، ممبروں کے لئے
جلسہ کے $\frac{2}{3}$ اور اعلیٰ سے دستور۔

۷۰- وزیر المالیہ کے دستور، دولت و خزانہ اور دستور کے لئے
قومی، مالیہ اور دستور، دستور کے لئے، دستور کے لئے، دستور
دور اور دستور کے لئے، دستور کے لئے، دستور کے لئے، دستور
صورت میں، وزیر کے لئے جلسہ کے لئے دستور کے لئے۔

۷۱- دولت و خزانہ دستور، وزیر المالیہ کے لئے خاص کے لئے دستور کے لئے
دور۔

قومی ممبروں کے لئے

۷۲- دستور کے لئے، اسلام دین کے لئے دستور کے لئے، دستور کے لئے

دین و دینداری و دینداری عدل انصاف قائم کنند، شریعتی و دینداری
 دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری
 دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری
 دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری
 دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری

۷۳- دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری
 مجلس و مشورته و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری

۷۴- دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری

- (۱) دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری
- (۲) دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری
- (۳) دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری
- (۴) دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری
- (۵) دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری
- (۶) دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری و دینداری

(۷) شریعت و شریعتیہ، عوامی و حکومتی حکوموں کے ذریعے شریعتیہ قوانین کی ترویج اور لیاقت میں حصہ لینے کے لیے کام کرنا۔

۷۵- شریعتیہ ریفرنس ڈیپارٹمنٹ، اسلام دین کی صحیح تشریح، شافعی مذہب کے ریفرنس ڈیپارٹمنٹ، سیریسٹیوٹس اور سوشل سروس کے ذریعے، جو کہ ریفرنس شریعتیہ ریفرنس ڈیپارٹمنٹ، ریفرنس ڈیپارٹمنٹ، ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے کام کرنا۔

۷۶- محکمہ الشریعتیہ ریفرنس ڈیپارٹمنٹ، قانون کی ترقی اور بیان کی ترقی کے ذریعے، استئناف کے ذریعے حقوق کے ترقی کے ذریعے کام کرنا۔

۷۷- شریعتیہ ریفرنس ڈیپارٹمنٹ، وکیل اور ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے کام کرنا، وکیل اور ریفرنس ڈیپارٹمنٹ، دولت کی ترقی کے ذریعے کام کرنا، شریعتیہ ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے کام کرنا۔

۷۸- (د) ریفرنس ڈیپارٹمنٹ، شریعتیہ ریفرنس ڈیپارٹمنٹ، مجلس کی ترقی کے ذریعے کام کرنا، مجلس کی ترقی کے ذریعے کام کرنا۔

(ب) مركز بومسور مجلسى ممبر سوري اقرار :-
 «در سورت، اسلام دين در سوري، مير خور سورتق و قانون اساسي سوري
 يدورد سورتق، سورتق در سوري، سورتق و سورتق سورتق، دولة سورتق
 اخلاص سورتق، سورتق سورتق سورتق سورتق، سورتق سورتق سورتق سورتق سورتق
 سورتق سورتق»

٧٩- وزير سوري مجلسى سورتق ممبر سورتق، ٧٨ سورتق ماده «س»
 سورتق سورتق اقرار سورتق سورتق «ممبر سورتق سورتق سورتق سورتق
 سورتق سورتق سورتق سورتق سورتق سورتق سورتق سورتق سورتق سورتق
 سورتق سورتق سورتق سورتق»

٨٠- وزير سوري مجلسى ممبر سوري سورتق سورتق سورتق سورتق سورتق
 ممبر سورتق اقرار سورتق سورتق سورتق سورتق سورتق سورتق

٨١- دولة و وزارة سورتق محكمة سورتق

- (١) وزير الاعظم سورتق سورتق
- (٢) محكمة الشرعية
- (٣) وزارة الداخلية

- (٤) وزارة المالية ،
- (٥) وزارة المعارف .
- (٦) وزارة الأوقاف .
- (٧) وزارة الصحة .
- (٨) وزارة التجارة والتموين .
- (٩) محكمة الخارجية .
- (١٠) محكمة الأمن عامر .
- (١١) محكمة الأرشاد .
- (١٢) محكمة الأشغال .

٨٢ - دولة ووزارة مدني ، محكمة مدني ، مدير ومعد ومعد
 اختيار معد ومعد مجلس مدني ومعد ومعد.

٨٣ - قانون اساسي في خلاف مدني ، مدني وقانون مدني ،
 مدني ومعد ومعد .
 مدني ومعد ومعد ، مدني ومعد ، مدني ومعد ومعد
 مدني ومعد ومعد ، ٣٣ ومعد ومعد ومعد ومعد ومعد ،
 مدني ومعد ومعد ومعد ، مدني ومعد ومعد ، قانون مدني ومعد
 مدني ومعد ومعد ومعد ، ومعد ومعد مدني ومعد ومعد ومعد

رئیس ریاست محترم و سرکار عالی، سرکار عالی در قانون در سرکار عالی
۱۴ سرکار عالی در سرکار عالی و سرکار عالی، خاص مجلس و ۲/۳ و اطلبیه سر
رئیس و سرکار عالی.

۸۴ - خاص مجلس در سرکار عالی:

- (۱) وزیر سرکار عالی و مجلس و ممبر سرکار عالی.
- (۲) سرکار عالی و سرکار عالی و ممبر سرکار عالی.
- (۳) سرکار عالی، سرکار عالی و سرکار عالی، انتخاب و سرکار عالی ممبر سرکار عالی
- (۴) سرکار عالی و سرکار عالی و ممبر سرکار عالی، سرکار عالی و سرکار عالی ممبر سرکار عالی.
- (۵) سرکار عالی و سرکار عالی و ممبر سرکار عالی، سرکار عالی و سرکار عالی ممبر سرکار عالی.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لِلَّهِ الْأَمْدُ مِنْ قَبْلِ وَ مِنْ بَعْدِ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ . وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

۲۵ جمادی الآخرة ۱۳۷۳ هـ قمری، سرکار عالی و سرکار عالی خاص
مجلس سرکار عالی و سرکار عالی، قانون اساسی، سرکار عالی و سرکار عالی، تصدیق

تَسْمُو، وَ قَانُونِ اَسَاۡسِيٍّ مِوَقُوْرٍ مَوْزُوْنٍ وَّ يَدِ رِشْوَةِ دَوْلَتُو، وَ نَبِيْرِيْ اَلْعَظْمِ
رِشْوَةِ اَمْرٍ تَسْمُو وِوَقُوْرٍ.

اِرْجَب ۱۳۷۳ هـ

(الامضاء)

محمد فرید دیدی

مُحَمَّدُ فَرِيْدُ الْاَوَّلِ

مِوَقُوْرٍ مَوْزُوْنٍ وَّ مَوْزُوْرٍ.